



## اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے کویت کو شکست دے دی

- پاکستان نے کویت کو 163 رنز سے شکست دے دی
- پاکستان کی جانب سے 3 کھلاڑیوں کی نصف سنچریاں
- دھواں دار بیٹنگ اور شاندار باؤلنگ پر محمد وسیم مین آف دی میچ قرار

کراچی، 9 ستمبر 2019ء:

سری لنکا میں جاری اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور کویت کی ٹیموں کے درمیان میچ ٹائران فرنیٹو اسٹیڈیم موراثوا میں کھیلا گیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے کویت کے خلاف میچ میں 163 رنز سے کامیابی حاصل کی۔

پاکستان کی جانب سے محمد وسیم نے برق رفتار نصف سنچری اسکور کی۔ محمد وسیم نے 20 گیندوں پر 55 رنز بنائے۔ ان کی اننگ میں 6 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ باؤلنگ میں محمد وسیم نے 9 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انہوں نے 3 اوورز میڈن کیے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر محمد وسیم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

میچ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی جانب سے قاسم اکرم نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قاسم اکرم نے 6.4 اوورز میں 38 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابوہریرہ نے 2 اور عباس آفریدی نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

335 رنز کے تعاقب میں کویت انڈر 19 کرکٹ ٹیم مقررہ 43.4 اوورز میں 172 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان عبدالصادق نے 60 اور گوند کمار نے 45 رنز بنائے۔

اس سے قبل قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان روحیل نذیر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے مقررہ 50 اوورز

میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 335 رنز بنائے۔ میچ میں پاکستان کی جانب سے 3 بلے بازوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ عرفان خان نے 63، حارث خان نے 53 اور محمد وسیم نے 55 رنز اسکور کیے۔ فہد منیر 42 اور روحیل نذیر 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ حریف ٹیم کے باؤلرز نے 17 اضافی رنز دیئے۔

کویت انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی جانب سے جندوبہمود نے 4 جبکہ عبدالصادق نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

دوسری جانب کویت انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو 21 رنز کے مجموعی اسکور پر دونوں اوپنرز پویلین واپس لوٹ چکے تھے۔ جس کے بعد کپتان عبدالصادق اور گوند کمار کے درمیان 110 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ عبدالصادق نے 60 اور گوند کمار نے 45 رنز بنائے۔

کویت کے 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہیں ہو سکے تاہم پاکستان نے میچ میں 19 اضافی رنز دیئے۔

اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ کویت کے خلاف فتح کے باوجود قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم ایونٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ گروپ اے میں پاکستان ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن پر موجود ہے۔ بھارت اور افغانستان کی ٹیمیں گروپ اے کی دو ٹاپ ٹیمیں ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

### ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4